

Time: 10 Minutes	Paper Math 4 (T-1)	Total Marks: 10
1st Month, 3rd Week, 5th Day	Multiplication and division	ضرب اور تقسیم

Q.No.1. Choose the correct option. $(1 \times 6 = 6)$ درست آپشن کا انتخاب کریں۔

i) The next term in 2, 10, 18 is: 18, 10, 2 میں اگلی رقم ہے:

- | | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| (a) 26 | (b) 24 | (c) 25 | (d) 27 |
|--------|--------|--------|--------|

ii) What will be the next term in the pattern 106, 103, 100, 97 ?

نمونے میں اگلی رقم کیا ہوگی؟

- | | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| (a) 94 | (b) 95 | (c) 93 | (d) 92 |
|--------|--------|--------|--------|

iii) Observe the given pattern and describe the rule: 6, 12, 18, 24, 30.

6, 12, 18, 24, 30 دیئے گئے نمونے کا مشاہدہ کریں اور اصول بیان کریں۔

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| (a) by adding 9 جمع کر کے 9 | (b) by adding 8 جمع کر کے 8 |
| (b) by adding 7 جمع کر کے 7 | (c) by adding 6 جمع کر کے 6 |

iv) The next term in 58, 48, 38 is: 38, 48, 58 میں اگلی رقم ہے:

- | | | | |
|--------|--------|--------|-------|
| (a) 48 | (b) 28 | (c) 18 | (d) 8 |
|--------|--------|--------|-------|

v) The next two terms of the given pattern are : 14, 12, 10, _____,

دیئے گئے نمونے کی اگلی دو ترمیں ہیں: _____, 10, 12, 14:

- | | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| (a) 8,6 | (b) 6,8 | (c) 4,8 | (d) 8,4 |
|---------|---------|---------|---------|

vi) Observe the given pattern and identify the rule: 87, 74, 61, 48

87, 74, 61, 48 دیئے گئے نمونے کا مشاہدہ کریں اور اصول کی نشاندہی کریں:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| (a) by Subtracting 14 تفریق کر کے 14 | (b) by Subtracting 13 تفریق کر کے 13 |
| (b) by Subtracting 12 تفریق کر کے 12 | (c) by Subtracting 11 تفریق کر کے 11 |

Q.No.2. Observe the given patterns, describe the rule and write the next two terms. $(2 \times 2 = 4)$

دیئے گئے نمونے کا مشاہدہ کریں اور اصول کی وضاحت کریں اور اگلی دو ترمیں لکھیں۔

i) 11, 15, 19, 23, 27, _____, _____,

ii) 284, 288, 292, 296, _____, _____,

Time: 10 Minutes	Paper Math 4 (T-1)	Total Marks: 10
1st Month, 3rd Week, 5th Day	Multiplication and division	ضرب اور تقسیم

Q.No.1. Choose the correct option. $(1 \times 6 = 6)$ درست آپشن کا انتخاب کریں۔

i) The next term in 2, 10, 18 is: 18, 10, 2 میں اگلی رقم ہے:

- | | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| (a) 26 | (b) 24 | (c) 25 | (d) 27 |
|--------|--------|--------|--------|

ii) What will be the next term in the pattern 106, 103, 100, 97 ?

نمونے میں اگلی رقم کیا ہوگی؟

- | | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| (a) 94 | (b) 95 | (c) 93 | (d) 92 |
|--------|--------|--------|--------|

iii) Observe the given pattern and describe the rule: 6, 12, 18, 24, 30.

6, 12, 18, 24, 30 دیئے گئے نمونے کا مشاہدہ کریں اور اصول بیان کریں۔

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| (a) by adding 9 جمع کر کے 9 | (b) by adding 8 جمع کر کے 8 |
|-----------------------------|-----------------------------|

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| (b) by adding 7 جمع کر کے 7 | (c) by adding 6 جمع کر کے 6 |
|-----------------------------|-----------------------------|

iv) The next term in 58, 48, 38 is: 38, 48, 58 میں اگلی رقم ہے:

- | | | | |
|--------|--------|--------|-------|
| (a) 48 | (b) 28 | (c) 18 | (d) 8 |
|--------|--------|--------|-------|

v) The next two terms of the given pattern are : 14, 12, 10, _____, _____ دیئے گئے نمونے کی اگلی دو ترمیں ہیں: _____, 10, 12, 14:

- | | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| (a) 8,6 | (b) 6,8 | (c) 4,8 | (d) 8,4 |
|---------|---------|---------|---------|

vi) Observe the given pattern and identify the rule: 87, 74, 61, 48

87, 74, 61, 48 دیئے گئے نمونے کا مشاہدہ کریں اور اصول کی نشاندہی کریں:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| (a) by Subtracting 14 تفریق کر کے 14 | (b) by Subtracting 13 تفریق کر کے 13 |
| (b) by Subtracting 12 تفریق کر کے 12 | (c) by Subtracting 11 تفریق کر کے 11 |

Q.No.2. Observe the given patterns, describe the rule and write the next two terms. $(2 \times 2 = 4)$

دیئے گئے نمونے کا مشاہدہ کریں اور اصول کی وضاحت کریں اور اگلی دو ترمیں لکھیں۔

i) 11, 15, 19, 23, 27, _____, _____,

ii) 284, 288, 292, 296, _____, _____,